

آپ جو کام کرتے ہیں اس سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں

میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں؟

میں کن چیزوں میں کمی کر سکتا ہوں؟

میں کن چیزوں میں زیادتی کر رہا ہوں؟

آپ جو کام کرتے ہیں ان سے مدد ملتی ہے

میں کہاں ہونا چاہتا ہوں؟

مجھے مزید اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟

میں نے کیا کرنا چھوڑ دیا؟